

WA NOTIFY کیسے کام کرتی ہے

واشنگٹن ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز (WA Notify) ایک اہم ٹول ہے جو COVID-19 کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ بالکل ماسک پہننے، فاصلہ برقرار رکھنے اور ویکسین لینے ہی کی طرح WA Notify ہماری کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔

WA Notify صارفین کے ممکنہ طور پر COVID-19 کی زد میں آنے کی صورت میں، کسی بھی ذاتی معلومات کا اشتراک کیے بغیر انہیں خبردار کرنے کے لیے سمارٹ فون کے توسط سے کام کرتی ہے۔ یہ مکمل طور پر نجی ہے اور اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور نہ ہی اس بات کا سراغ لگاتی ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔

مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ ایکسپوزر نوٹیفیکیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے لوگ جس قدر زیادہ ہوں گے، اس کا فائدہ اسی قدر زیادہ ہوگا۔ واشنگٹن ریاست کے ڈیٹا ماڈلز سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ WA Notify کو استعمال کرنے والے لوگوں کی ایک چھوٹی سی تعداد سے بھی انفیکشنز اور اموات میں کمی آئے گی۔

ایپ کو اپنے سمارٹ فون پر انسٹال کریں WA NOTIFY



iPhone پر:

1. ترتیبات میں جائیں
2. نیچے کی طرف اسکرول کر کے ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز میں جائیں
3. «ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز کو آن کریں» پر کلک کریں
4. یونائیٹڈ اسٹیٹس منتخب کریں
5. واشنگٹن منتخب کریں

Android فون پر:

1. گوگل پلے اسٹور پر جائیں
2. ایپ کا آسانی سے پتہ لگانے کے لیے WA Exposure Notifications کو تلاش کریں
3. واشنگٹن ایکسپوزر نوٹیفیکیشنز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں

WA NOTIFY ایپ کو اپنے سمارٹ فون پر انسٹال کرنے کے بعد

ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کس طرح کام کرتی ہے

5



اس نوٹیفیکیشن میں اس بات سے متعلق معلومات کی ایک لنک موجود ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے آگے کیا کریں۔ ان میں مثبت نتیجہ نکلنے والے شخص کے بارے میں کوئی معلومات شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس بارے میں کوئی معلومات ہوتی ہے کہ کس مقام میں وہ اس کی زد میں آئے۔

4



اگر WA Notify صارفین، ممکنہ طور پر حال ہی میں COVID-19 کے لیے مثبت نتیجہ نکلنے والے گمنام WA Notify صارف کی زد میں آگئے ہوں، تو انہیں ایک اطلاع موصول ہوتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ COVID-19 کی زد میں آ گئے ہیں۔

3




وہ شخص جس کی جانچ کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے وہ لنک پر کلک کرتا ہے یا نوٹیفیکیشن کو تھپتھپاتا ہے اور ایپ پر اپنے نتیجے کی توثیق کے لیے تمام مراحل پر عمل کرتا ہے۔

2



کوئی خبر خوش خبری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا لیبارٹری کے ذریعے توثیق شدہ COVID-19 جانچ کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے تو صحت عامہ انہیں توثیقی لنک والا ایک متنی پیغام اور/یا ایک پاپ اپ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے۔ متبادل کے طور پر، صارف گھر پر مبنی مثبت جانچ کے لیے ایک توثیقی کوڈ کی درخواست کر سکتا ہے۔

1



جب سمارٹ فون پر WA Notify استعمال کرنے والے دو لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے فون بلوٹوتھ استعمال کر کے بے ترتیب کوڈز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ کوڈز مکمل طور پر گمنام ہوتے ہیں، اور یہ محل وقوع یا ذاتی معلومات کا اشتراک نہیں کرتے۔